



سوال

(300) ہمٹے کے اور کوٹ پہننے کے بارے میں حکم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

پچھلے دنوں ہمٹے کے بنے ہوئے اور کوٹ پہننے کے بارے میں ہماری بہت گرامر گفتگو ہوئی۔ بعض بھائیوں کی یہ رائے تھی کہ یہ کوٹ عموماً خنزیر کی کسالوں سے بنائے جاتے ہیں اور اگر یہ واقعی خنزیر کی کھالوں سے بنائے جاتے ہیں تو ان کے پہننے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا شرعاً ان کا پہننا جائز ہے جب کہ بعض دینی کتابوں مثلاً الحلال والحرام للقرضاوی اور الفقہ علی المذہب الاربعہ میں اس مسئلہ کو ذکر تو کیا گیا ہے لیکن وضاحت سے اس پر روشنی نہیں ڈالی گئی؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”جب کھال کورنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔“ نیز آپ نے فرمایا کہ مردار کی کھال کورنگ دینا اسے پاک کر دیتا ہے لیکن اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا یہ حدیث عام ہے اور تمام کھالوں کے لئے یہی حکم ہے یا یہ حکم صرف ان جانوروں کی کھالوں کے لئے ہے جنہیں ذبح کر کے کھانا حلال ہے، بلاشبہ ان مردہ جانوروں کی کھالیں جنہیں ذبح کر کے کھانا حلال ہے مثلاً اونٹ، گائے اور بخرمی وغیرہ، پاک ہیں اور وہ جانور جو ذبح کرنے سے بھی حلال ہیں ہوتے، خنزیر وغیرہ ان کی کھالوں کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ وہ نکلنے سے پاک ہوتی ہیں یا نہیں؟ زیادہ احتیاط اس بات میں ہے کہ ان کا استعمال ترک کر دیا جائے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص شہادت سے بچ جائے اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔“ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ”جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے، اسے چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جو شک میں مبتلا نہ کرے۔“



محدث فتویٰ